

تاریخ

نئے داخلہ ہائی اسکول طلبا کے عزیزى والدین، سرپرست یا نگران:

تعلیم صحت ذمہ دارانہ فیصلہ سازی سکھاتی ہے اور طلبا کو اسکول اور زندگی میں زیادہ کارآمد ہونے کے قابل بناتی ہے۔ طلبا جو تعلیم صحت موصول کرتے ہیں اسکے ایک نتیجے کے بطور، نیویارک شہر محکمہء تعلیم کا HIV/AIDS تعلیمی پروگرام پبلک ہائی اسکولوں میں ایک (ذکری غلاف) کونڈم دستیابی پروگرام (CAP) کا مطالبہ کرتا ہے جو طلبا کی تعلیم صحت کی کلاسوں میں اور اس سے باہر فیصلہ سازی میں مدد کر سکتا ہے۔ ریاستی قانون کے مطابق، CAP کے ذریعے 9-12 گریڈ کے طلبا مفت کونڈم، طبی طور پر درست صحت کی معلومات اور اسکول کے تربیت یافتہ عملے سے صحت کے حوالوں کی درخواست کر سکتے ہیں۔

بطور والدین، سرپرست یا نگران، آپ اسکول سے اپنے بچے کو کونڈم فراہم نہ کرنے کی گزارش کر سکتے ہیں۔ عوامی صحت قانون § 2504 کے مطابق، آپ کو ایسی درخواست کرنے کی اجازت نہیں ہے اگر آپکا بچہ (1 یا 18 سال یا زائد عمر کا ہے؛ 2) اسکی شادی ہوئی تھی یا فی الحال شادی شدہ ہے؛ (3) ایک والدین ہے اور/یا (4) قانون کے تحت اپنے لیے خود فیصلہ کرنے کے قابل ہے۔

درخواست کرنے کے لیے کہ آپکے بچے کو CAP کے ذریعے کونڈم فراہم نہ کیا جائے، آپ مجھے لازماً ایک خط لکھ کر بھیجیں جس میں یہ شامل ہوں:

- طالب علم کا پورا نام
- طالب علم کا گریڈ
- طالب علم کا شناختی نمبر (نوٹ: اگر آپکے پاس یہ معلومات نہیں ہے تو ہم آپکو یہ معلومات فراہم کریں گے)
- ذیل کا بیان: " \_\_\_\_\_ (طالب علم کا مکمل نام) کو کونڈم دستیابی پروگرام کے تحت کونڈم نہیں ملنے چاہیے۔"
- آپکے دستخط بطور والدین، سرپرست یا نگران کے

اگر آپ اپنا ارادہ تبدیل کر لیں اور فیصلہ کریں کہ آپکا بچہ کونڈم کی درخواست کر سکتا ہے، آپ اسکول سال کے دوران کسی وقت بھی مجھے لکھ سکتے ہیں۔ CAP تربیت یافتہ ممبران تمام طلبا کی رازداری کو یقینی بنانے کے پابند عہد ہیں، بشمول انکے جو پروگرام میں حصہ نہیں لیتے ہیں۔

ہم آپکی حوصلہ افزائی کریں گے کہ آپ گھر پر اپنے نوبالغ کی صحت سے متعلق مثبت انتخابات کرنے میں مدد کے لیے جنسی صحت اور صحت کے دیگر موضوعات پر گفت و شنید کریں۔ نیویارک شہر کے طلبا کو قابل اہمیت، صحتمند، اور نشوونما پانے کے قابل بنانے میں مدد کے لیے ہمارے ساتھ ملکر کام کرنے کا شکریہ۔

مخلص،

پرنسپل